

Subject Kashmiri (GE) 2019

Multiple Choice Questions

Dr. Sakhi Shah Irfan

Assistant

۱۔ یومنز کس صوتیم چھ سہ بییمہ باپتھ کاشترس منزہ اُردوہس منز الگ الگ آواز چھ: ازا۔

۲۔ یومنز کمہ زبانی ہند رسم الخط چھنہ کاشتر زبانی ہندس موجود رسم الخطس ستتر رلان: ڈوگری۔

۳۔ کاشتر بن اکثر ہکارو لفظن ہند آگر چھ یہ زبان: فارسی۔

۴۔ عام پٹھی چھ کاشتر زبانہ ہندس موجود رسم الخطس ونان: حقیقی رسم الخط۔

۵۔ یومنز کوس اکھ زبان چھ کاشتر زبان: رام ہنڈ۔

۶۔ کاشتر زبانی ہند موجود رسم الخط چھ: خط نستعلیق۔

۷۔ خواجہ نذیر احمدن مانن چھ ز کاشتر زبانہ پٹھ چھ ژو راثر: عبرانی زبانہ ہند۔

۸۔ [ڑ] مصممتہ چھ کشیر ہند بییمہ علاؤلو اکھ زیاد استعمال کران: مرآزی۔

۹۔ بول چال کبوجر و منز کس اکھ جز چھ تعلق تھاوان ورگہ باؤ ژ ستتر: (ورگہ باوتھ)

۱۰۔ کاشتر زبان بولن وول مرکزی علاقہ چھ: کشیر ہنز وادی۔

Sixth Semester

Kashmiri General Elective II

(Objectives)



Prepared by: Dr. Sakhi Shah Irfan

Assistant Professor (Kashmiri) GDC Sharda

(Ph.D, M.Phil, NET, M.F.d, J.K.U.Srinagar)

Call: 9890012345

Email: irfan_sakhi@yahoo.com

ہندوستان کے ترقی یافتہ اور ترقی پزیر لوگوں کے لیے ایک نیا دور ہے۔

ہندوستان کے ترقی یافتہ اور ترقی پزیر لوگوں کے لیے ایک نیا دور ہے۔

ہندوستان کے ترقی یافتہ اور ترقی پزیر لوگوں کے لیے ایک نیا دور ہے۔

ہندوستان کے ترقی یافتہ اور ترقی پزیر لوگوں کے لیے ایک نیا دور ہے۔

- ۱۱۔ گریسن نہ راہیہ مطابق چھے کاثر زبان: دردی۔
- ۱۲۔ کاثر زبانہ ہند تعلق چھ زبان ہندس۔ ہند یورپی خاندان۔
- ۱۳۔ زبان متعلق چھے اکھ سبھہ عام غلط فہمی ز: اکھ زبان کبا چھے پیہہ زبانی
متر زبان۔
- ۱۴۔ زبان ہند اصول چھ: جبری۔
- ۱۵۔ گنہ اکہ زبانہ ہند بن لوپکن لوپکن اکھنڈ آوازن ہندس مطالعہ چھ ونان:
صوتیات۔
- ۱۶۔ بول چال کو بیوجز و متر کس اکھ جز چھ فہمس ستر تعلق تھاوان: معنویات۔
- ۱۷۔ زبان چھے: آوازن، لفظن تہ جملن ہند بن رشتن ہند نظام۔
- ۱۸۔ بیومتر کس چھ تحریری زبانہ ہند جز: ریاضیات۔
- ۱۹۔ بیومتر کس چھنہ تحریری زبانہ ہند جز: لسانیات (Linguistics)۔
- ۲۰۔ زبان چھے یمن دون صوتی علامتن ہند نظام: ریو آیتی تہ فطری۔
- ۲۱۔ زبان چھے یمن دون سو تھرن پٹھ وجود تھاوان: باشہ بل تہ باشہ ورتاوا۔
- ۲۲۔ کاثر زبان، ادب تہ صوتیات کتاب کمر ستر چھے: عنایت کشمیری۔
- ۲۳۔ گنہ زبانہ ہند بن لوپکن لوپکن آوازن چھ: صوتی یا صوتیم۔

- ۲۴۔ زبان تہ ادب کتاب چھے لچھ ہمز: شفیع شوق۔
- ۲۵۔ An introduction to the study of speech کتاب چھے لچھ ہمز:
-Edward Sapir
- ۲۶۔ Course in general linguistics کتاب چھے لچھ ہمز:
-Ferdinand de Saussure
- ۲۷۔ زبان ورتاوس چھ ژور مقصد: اطلاع دین، فاصلہ دین، ادبی معنی پاد
کرن تہ علم محفوظ تھاوان۔
- ۲۸۔ زبان ہندس علمس چھ ونان: لسانیات۔
- ۲۹۔ تحریری زبان چھے: تقریری تہ اشاراتی زبانہ ہند متبادل۔
- ۳۰۔ تحریری زبانہ اندر چھ آس: آواز و بدلہ حرفن تہ اعرابن ہند استعمال کران۔
- ۳۱۔ تحریرک کو بولچا لگ اصل مقصد چھ: فہم۔
- ۳۲۔ بول چالچہ زبانہ چھ ونان: تقریر۔
- ۳۳۔ گنہ زبانہ ہند ساروے کھوتہ لوکٹ معنوی جز: مار فہم۔
- ۳۴۔ مار فہم چھ دوہہ قسمہ آسان: یلہ مار فہم تہ بند مار فہم۔
- ۳۵۔ نو کاثر ادبک تو آرتخ کتاب چھ لچھ ہمز: ناجی منور، شفیع شوق۔

۳۶- The dying linguistics heritage of the Kashmir کتاب چھے

لچھہ ہمز: بڑج۔ بی۔ کاچرو۔

۳۷- یہ چھے کاشتر زبانہ ہنز ٹکساکی بولی: شہری بولی۔

۳۸- [ر] مصمتہ چھ کشیر ہندی بیمہ علائقہ لوکھ زیادہ استعمال کران: سرینگر کی لوکھ۔

۳۹- پیش کالس منز چھ سرینگر کی لوکھ کز اوتس ستی استعمال کران: (آن)۔

۴۰- پیش کالس منز چھ مرآزی کی لوکھ کز اوتس ستی استعمال کران: (آن)۔

۴۱- انسانی زبان ہنز آوازن ہندس علمس چھ ونان: آوازیات۔

۴۲- مصوتن ہند تلفظ چھ یکن اصولن پٹھ دارمدار: زیو ہند تھزر، زیو ہنز جاے،

مصوتگ زچھر، وٹھن ہنز حالت۔

۴۳- کاشتر بو مصوتو منز چھ ز مصوتہ بڑ وٹھ، تھدی، اگول: ا، اپہ۔

۴۴- سلوویک (Slovak) زبان ہندی پٹھی چھے کاشترس منز تہ تالرن

-Palatalization

۴۵- مصمتن ہند اداگی ہند دارمدار چھ: مصوتہ ادا گزہنہ و ز شہہ نیرنچ حالتھ،

مصوتہ چھاہکاری کنہ اہکاری، مصوتہ چھاؤزی کنہ اؤزی، مصوتہ کمبولن تانوستی

چھ ادا گزہان۔

۴۶- کاشترس منز چھہ ہند آریائی زبان ہندی و زی، ہکاری مصوتہ:

بھ، دھ، ڈھ، گھ، جھ۔

۴۷- کاشترس منز چھہ ہندی، سنسکرت (زیو تالی، اؤزی، ہکاری، لگھری مصوتہ:

شھ۔

۴۸- کاشتر زبان چھے: V2 زبان: یعنی کز اوت چھ جملس منز ڈویمہ جایہ لگان۔

۴۹- سادہ کاشتر چھ لفظ ترتیب چھے: SVO۔

۵۰- یہ کز وون ز کاشتر چھ لفظ ترتیب چھے نہ مکمل ہندوستانی زبانون شہ مختلف:

پیٹرایڈون ہگ۔

۵۱- یہ کز وون ز کاشترس منز چھہ واریاہ کم موقعن پٹھ کز اوت جملہ کس اُخرس

پٹھ یوان: جارج ابراہم گریسن۔

۵۲- کشیر ہندی گوڈنگو آدو اسی اسی: ناگ ذ اُژ۔

۵۳- ناگ اسی: سر پھن ہنز پوزا کران۔

۵۴- ناگ ذ اُژ چھ: آسٹرک تہ ڈزاوڈ ذ اُژ ستی رشتہ تھاوان۔

۵۵- خواجہ نذیر احمدن کتاب چھ: Jesus in heaven on earth۔

۵۶- آدم برسر مطلب مضمون چھ لیو کھمت: محی الدین حاجنی۔

۵۷۔ بودھن ہنز زبان اُس: پالی زبان۔

۵۸۔ بڑہمن ہنز زبان اُس: سنسکرت۔

۵۹۔ دردی زبان چھے کُشیر ہندس شمس گن نگر اتہ ہرز اعلان منز بولہ یوان۔

۶۰۔ Linguistic survey of India کتاب چھے لچھہ مہ:

جارج ابراہم گریرین۔

۶۱۔ رسالہ اصوات کشمیری چھہ لیو کھمت: سیف الدین تارگو۔

۶۲۔ چھنہ دردی زبان ہند یورپی لسانی خاندانگ انڈک شاخ اکھ شاخ

مانان: مارگن سٹیرن۔

۶۳۔ Dardic languages کتاب لچھہ: اُمکار ناتھ کول۔

۶۴۔ شماردار رسم الخط اوس برہمی رسم الخط اکھ قدیم حصہ۔ امیک دویم ناوچھہ:

سدھم۔

۶۵۔ رومن رسم الخطس منز کاشر رسم الخط تیار کر پنچ گوڈنچ کوشش کر:

پنڈت سا لگرام کول ۱۸۵۴۔

۶۶۔ اچھر مال رومن رسم الخط چھہ کاشر زبانہ اندر لیو کھمت: سری کنٹھ تو سخانی۔

۶۷۔ اچھر زان دیوناگر رسم الخط چھہ کاشر زبانہ منز لیو کھمت: سری کنٹھ ۱۹۲۱۔

۶۸۔ کاشر زبان چھے باقی پزاکرتن ہندی پاٹھراکھ پراکرت یہ کموون:

جارج بہلر (۱۸۷۵)۔

۶۹۔ مرغوب تھیوری دینہ وول چھہ: مرغوب بانہالی۔

۷۰۔ کاشیر ہند گوڈنیک مسلمان حکمران اوس: رتیچن شاہ۔

۷۱۔ رسپد، رنگہ روٹھ، پتلون، بوشاٹ، واسکٹ، بوتل، پستول، ہسپتال، بم،

لان من، دراز، پنسل، واشل، ہیٹینشن، بسکوت، سپمٹھ تہ مبیل لفظ کمہ زبانی ہند

اثر استر آو کاشرس منز: انگریزی۔

۷۲۔ گوڈنیک کاشر افسانہ لیو کھ: سوم ناتھ زتشی۔

۷۳۔ جو ابی کارڈ افسانہ لیو کھ: دینا ناتھ نادمن۔

۷۴۔ کاشر زبانہ ہند گوڈنیک افسانہ چھہ بیلہ پھول گاش یس سوم ناتھ زتشی

۱۹۵۰ منز لیو کھمت چھہ۔ رسل، لالہ جی تہ سلہ چھہ امکو کردار۔

۷۵۔ جو ابی کارڈ چھہ دینا ناتھ نادمن لیو کھمت۔

۷۶۔ کاشر افسانہ: ۱۹۴۷ پٹھہ ۱۹۶۵ ہس تام مضمون چھہ ہردے کول بھارتی

صا بن لیو کھمت۔

۷۷۔ بڑیم افسانہ چھہ عزیز ہارون لیو کھمت۔

- ۹۳۔ کردارس چھ انگریزی پاٹھر Character ونان۔
- ۹۴۔ Character لفظک آگر چھ: لاطینی زبانہ ہند لفظ: Kharakter۔
- ۹۵۔ مکالمہ گووانگریزی پاٹھر Dialogue۔
- ۹۶۔ ڈایلاگ چھ دون انگریزی لفظن ہند جوڈ۔ Dia تہ Logue۔
- ۹۷۔ Dia گووڑتہ Logue گووکلامہ۔
- ۹۸۔ گریسی سندر ڈراما چھ محی الدین حاجنی صائب۔
- ۹۹۔ سٹیج کھوٹ ڈراما چھ نندلال کول صائب۔
- ۱۰۰۔ کاشتر زبان، ادب تہ صوتیات کتاب چھ عنایت کشمیرین لچھ مر۔
- ۱۰۱۔ ناول چھ اطالوی زبانی ہند لفظ Novella تہ معنی چھس کتھ یاد لیل۔
- ۱۰۲۔ اصطلاحی طور چھ اوس ناول تھ کتابہ ونان تھ اندر کاٹھہ تہ دلیل مفصل پیرایس اندر لیکھتھ آسہ۔
- ۱۰۳۔ ناول چھ نثری زبانہ اندر لیکھنہ یوان۔
- ۱۰۴۔ ناولہ ہند آغاز سپینس منتر ۱۶۱۵ منتر۔
- ۱۰۵۔ گوڈونچ ناول چھ: Don Quixote یوسہ Sir Cervantes لچھ۔
- ۱۰۶۔ انگلینڈس منتر سپد ناول لیکھنگ آغاز ۱۷۱۹ عیسوی کیت ییلہ

- ۷۸۔ ژنہ ژور افسانہ چھ صوفی غلام محمدن لیو کھمت۔
- ۷۹۔ مہہ گٹہ افسانہ چھ نور محمد روشن لیو کھمت۔
- ۸۰۔ پھاٹکھ افسانہ چھ امین کا ملن لیو کھمت۔
- ۸۱۔ شیپو پتو پتو افسانہ چھ دہناتا تھ نادمن لیو کھمت۔
- ۸۲۔ افسانس متعلق کینہہ بنا دی کتھ مضمون چھ اختر محی الدین لیو کھمت۔
- ۸۳۔ ڈراما چھ اکھ یونانی لفظ۔ ڈراما گوو کینہہ عملی طور ہاوتھ دیں۔
- ۸۴۔ مؤلہ لفظ چھ ڈراو۔ (Drao)
- ۸۵۔ ڈراو لفظک معنی چھ I do۔
- ۸۶۔ ڈراما لفظک معنی چھ: کرن، ہاؤن، یا کرتھ ہوو مت چیز۔
- ۸۷۔ ڈراما چھ انسانی افعالن ہند نقل ونن وول چھ ارسطو۔
- ۸۸۔ المیہ گوو تھ ڈرامہک اندالمناک آسہ۔ یہ چھ ڈرامہن ہند اکھ قسم۔
- ۸۹۔ بیہ عملہ ستر تماشہ گیر خوفزدگرتھن تھ چھ ارسطو کیتھار سز ونان۔
- ۹۰۔ ژہاے ڈراما چھ تواریخی ڈراما یس موتی لال کیمو صائب لیو کھمت چھ۔
- ۹۱۔ پلاٹ گوو: واقاتن ہنز ہانکل۔
- ۹۲۔ پلاٹس متعلق چھ ارسطوون تڑے وحدت۔ وحدت عمل، مکان تہ زمان۔

Robinson Crusoe ناول ڈیوڈ ڈیوڈ Daniel Defoe ہن شالیج کر۔

۱۰۷-۱۳۶ اےیسوی منز لچھ جانا تھن سو فٹن Gulivers Travels -

۱۰۸-۱۸۹۵ اےیسوی کیت سپز H.G.Wells سٹنز Time Machine شالیج۔

۱۰۹- گالزوردی سٹنز ناول چھ: Foresight Saga -

۱۱۰- E.M.Forester چھ ناول لکھان: A Passage to India (۱۹۱۰)۔

۱۱۱- کشیر و اُژ ناول اُردو زبانی ہندو وساطتہ۔

۱۱۲- اُردو زبانی منزئل ناول لکھنگ دس ڈپٹی نذیر احمدن۔

۱۱۳- رتن ناتھ شسر شار سٹنز کتاب چھ: فسانہ آزاد۔

۱۱۴- کاشر زبانی ہنزگو ڈنچ ناول چھ: دودتہ دگ۔ (اختر محی الدین ۱۹۵۸)

۱۱۵- اختر محی الدین سٹنز دویم ناول چھ: زوتہ زولانہ۔ یہ ناول چھپے یہ چمن

اخبارس اندر قسط وار۔

۱۱۶- گٹہ منز گاش ناول لکھن وول ناول نگار چھ: امین کامل۔

۱۱۷- اُس تہ چھ انسان ناول لکھن وول چھ: علی محمد لون۔

۱۱۸- اکھ دور ناول چھ: پنسی نردوش۔

۱۱۹- مجرم ناول لکھن وول چھ: غلام نبی گوہر۔

۱۲۰- میل ناول لکھن وول چھ: غلام نبی گوہر۔

۱۲۱- پُن تہ پاپ ناول لکھن وول چھ: غلام نبی گوہر۔

۱۲۲- ارگ اشد ناول لکھن وول چھ: غلام نبی گوہر۔

۱۲۳- تڑیش تہ ترپن ناول لکھن وول چھ: امر مالموہی۔

۱۲۴- شین تہ وتہ پو دنا ناول لکھن وول چھ: پران کشور۔

۱۲۵- داستان امیر جان ناول لکھن وول چھ: بشر بشیر۔

۱۲۶- مآج ناولہ ہند ترجمہ چھ کو رمت: علی محمد لون۔

۱۲۷- جنگ تہ امن، ودرنگ ہائیس ناولہ ہند ترجمہ چھ کو رمت: مظفر عازم۔

۱۲۸- مقدمہ ناولہ ہند ترجمہ چھ کو رمت: سوم ناتھ زُتشی۔

۱۲۹- پڑانہ وار ناولہ ہند ترجمہ چھ کو رمت: سید رسول پونیر۔

۱۳۰- لدا نچ تہاے، مرُن ایوان ایلیچن ناولہ ہند ترجمہ چھ کو رمت:

شفیع شوق۔

۱۳۱- تُمس ناولہ ہند ترجمہ چھ کو رمت: رفیق مسعودی۔

۱۳۲- جرم تہ سزانا ناولہ ہند ترجمہ نگار چھ: شمشاد کزالہ واری۔

۱۳۳- او تھیلو: غلام نبی ناظر۔

